

سوال

سوال: کیا طالب علم کو زکاة دی جا سکتی ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شرعی علوم کے حصول کیلئے مکمل وقت دینے والا طالب علم اگرچہ کمانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تب بھی زکاة میں سے اسے دے سکتے ہیں؛ کیونکہ شرعی علوم کا حصول بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو زکاة کا مستحق قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

ترجمہ: صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور [زکاة جمع کرنے والے] عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر (خرچ کرنے کے لیے ہیں)، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ [التوبة: 60]

اور اگر کوئی طالب علم دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہو تو اسے زکاة میں سے نہیں دیا جائے گا، اور ہم اسے کہیں گے کہ تم اس وقت دنیا کیلئے پڑھ رہے ہو، اور آپ ملازمت کے ذریعے کمانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو، اس لیے آپ کو زکاة میں سے نہیں دینگے " انتہی فضیلة الشيخ محمد بن عثمان رحمہ اللہ.